



• بچوں کی ذہن سازی کے لئے انوکھی کوشش •

میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا


Main Badaa Hokar Wakeel
(Advocate) Banunga

Urdu & Roman English



Shaikh Nooruddin Umeri

M.A., MPhil in Arabic, Director - Ocean The ABM School, Hyd.





Author:

Shaikh Nooruddin Umeri

M.A., MPhil in Arabic

Director - Ocean The ABM School, Hyd.

Design By: **Syed Zabi Uddin Quadri**

(Suffah Graphics)

Published in, **September 2022.**

All rights reserved under the Copyright Act. No part of this book may be reproduced and stored in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without a prior written permission of the publisher.



مقدمہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

پیارے پیارے بچو!

ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھا ہے۔ پیارے بچو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سوچتے ہیں۔ لیکن چلئے ہم آپ سب کو سوچنے کا انداز سکھائیں گے۔ ان شاء اللہ۔ آپ بڑے ہو کر وکیل بننا چاہیں تو کیوں بنیں گے؟ وکیل بن کر کیا کریں گے؟ کس کی طرح کے وکیل بنیں گے؟ وکیل بننے کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں ادا کریں گے؟ یہ ساری باتیں سکھائیں گے۔ ان شاء اللہ۔

ہمارے پیارے پیارے بچوں کے ماں باپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں ایک لسٹ بنالیں۔ آپ جو بھی بنانا چاہتے ہیں آج ہی سے ان کی ویسی عزت کرنا شروع کریں جس طرح اس آدمی کی جاتی ہے۔ جیسے اگر لیڈر بنانا چاہیں تو آج ہی سے لیڈر کی طرح عزت دینا شروع کریں۔ اگر ڈاکٹر بنانا چاہیں تو آج ہی سے ڈاکٹر کی طرح عزت دینا شروع کریں، اگر وکیل بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے وکیل کی طرح عزت دینا شروع کریں۔ اگر عالم یا حافظ بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے ان کی ایک عالم اور حافظ کی طرح عزت کرنا شروع کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا بچہ بڑی تیزی کے ساتھ اس سانچے میں ڈھلنا شروع کرے گا ان شاء اللہ۔

DTK ایک Online Platform ہے جہاں بچوں کی دینی تربیت کی جاتی ہے، مختلف دلچسپ

Programs, Projects, Activities کے ذریعہ ان کے ذہنوں میں مثبت سوچ، اخلاق کے معیارات پوسٹ کرائی جاتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اس Online Platform سے جوڑیں اور آسانی سے تربیت کریں۔

آپ کا خیر خواہ
نور الدین عمری۔ ایم اے، ایم فل



● میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا کیوں کہ مستقبل میں امت مسلمہ کو ڈاکٹروں کی طرح وکیلوں کی بھی ضرورت ہوگی۔

- Main badaa hokar wakeel banunga kyun ke mustaqbil mein ummat-e-muslimah ko doctors ki tar'ha wakeelon ki bhi zaroorat hogi.

● میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا کیوں کہ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے لئے وکیلوں کی سخت ضرورت ہے۔

- Main badaa hokar wakeel banunga kyun ke maujooda halaat mein ummat-e-muslimah ke liye wakeelon ki sakht zaroorat hai.



● میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا کیوں کہ اپنے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔

- Main badaa hokar wakeel banunga kyun ke apne haqooq ki hifaaazat karna hai.



میں بڑا ہو کر کیل بنوں گا

● میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا کیوں کہ امت کو عزت والے شہری کا مقام دلانا ہے۔

- Main badaa hokar wakeel banunga kyun ke ummat ko izzat waale shehri ka muqaam dilaana hai.

● میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا کیوں کہ مستقبل میں امت مسلمہ کے مسائل بڑھنے والے ہیں۔

- Main badaa hokar wakeel banunga kyun ke mustaqbil mein ummat-e-muslimah ke Masaail badhne waale hain.

● میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا کیوں کہ امت کو نا کردہ جرائم کے الزام کا سامنا کرنا پڑے گا۔

- Main badaa hokar wakeel banunga kyun ke ummat-e-muslimah ko na-kardah jaraaim ke ilzaam ka saamna karna padega.





میں بڑا ہو کر کیل بنوں گا

● میں وکیل بن کر مظلوموں کو انصاف دلاؤں گا کیوں کہ میرے نبی ﷺ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے۔

- Main wakeel Ban kar mazloomo ko insaaf dilaaunga kyun ke mere Nabi ﷺ hamesha mazloomo ka saath dete they.

● میں وکیل بن کر انصاف کی پیروی کروں گا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
اے ایمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی
مولا کے لئے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔

- Main wakeel ban kar insaaf ki pairwi karunga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

aye Imaam waalo! Adal-o-insaaf
par mazbooti se jam jaane
waale aur Allaah ki
khushnoodi ke liye
sachchi gawaahi
dene waale ban'jao"





● میں وکیل بن کر سچے کیس لڑوں گا۔

● Main wakeel Ban kar sachchey cases ladunga.

● میں وکیل بن کر جھوٹے کیس نہیں لڑوں گا۔

کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے (ایسا کمروالکذب)
جھوٹ سے پرہیز کرو۔

● Main wakeel Ban kar jhote cases nahi ladunga
Kyun ke mere Nabi ﷺ ka farman hai:
"Jhoot se pa'rhez karo".



● میں وکیل بن کر ہمیشہ اللہ سے ڈر کر کام کروں گا۔

کیوں کہ میرے رب کا فرمان ہے۔

(یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ)

"اے ایمان والو اللہ سے ڈرو"

● Main wakeel Ban kar hamesha
Allaah se darr kar kaam
karunga kyun ke mere
Rabb ka farman hai.

"aye Imaan waalo Allaah se daro".



● میں وکیل بن کر کسی غلط آدمی کا ساتھ نہیں دوں گا۔

کیوں کہ میرے رب کا فرمان ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔
تم گناہ کے کاموں میں کسی کا ساتھ مت دو۔

- Main Wakeel Ban kar kisi ghalat aadmi ka saath nahi dunga.

kyunke mere Rabb ka farman hai:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Tum gunah ke kaamon mein kisi ka saath mat do.

● میں وکیل بن کر سچے لوگوں کا ساتھ دوں گا۔

کیوں کہ میرے رب کا فرمان ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
تم اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔

- Main wakeel ban kar sachchey logon ka saath dunga.

kyun ke mere Rabb ka farman hai:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"Tum achchey kaamo mein ek doosre ki madad karo"





● میں وکیل بن کر خیانت نہیں کروں گا

کیوں کہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اٰثِمًا۔
بے شک اللہ خیانت اور گناہ کرنے والوں سے محبت نہیں کریں۔"

● Main wakeel Ban kar Khiyaanat nahi karunga.

Kyun ke mere Rabb ka farman hai:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اٰثِمًا۔

“Beshak Allaah khiyaanat aur gunah karne
waalon se mohabbat nahi karega


● میں وکیل بن کر کسی کے جرم کا دفاع نہیں کروں گا۔

● Main Wakeel ban kar kisi ke jurm ka difaa nahi karunga.



● میں وکیل بن کر کسی بے گناہ کو گناہ گار ثابت نہیں کروں گا۔

● Main Wakeel ban kar kisi be-gunah ko
gunah-gaar saabith nahi karunga.





● میں وکیل بن کر بے گناہوں کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar be-gunah ko be-gunah saabith karne ki koshish karunga.

● میں وکیل بن کر جھوٹے الزامات کا سہارا نہیں لوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا** [الاحزاب: 70]
 "اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی (سچی) باتیں کیا کرو"

- Main Wakeel Ban kar jhoote ilzamaat ka sahara nahi Lunga.

Allaah ta'ala ka irshaad hai:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [الاحزاب: 70]

"Aye Imaan waalo! Allaah ta'ala se daro aur seedhi seedhi (sachchi) baatein kiya karo".

● میں وکیل بن کر دھوکہ بازی سے کام نہیں لوں گا۔ کیوں کہ میرے نبی ﷺ کا فرمان ہے۔
 (ایسا کرو الغش) "تم دھوکہ سے بچو"

- Main Wakeel Ban kar dhoka baazi se kaam nahi Lunga.

(ایسا کرو الغش)

"Tum dhoke se bacho"



FRAUD



میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا

● میں وکیل بن کر رشوت قبول نہیں کروں گا۔

کیونکہ میرے نبی ﷺ کا فرمان ہے۔ (الراشي والمرتشي كلاهما في النار)

رشوت لینے والادینے دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔

● Main Wakeel Ban kar rishwat Qubool nahi karunga.

kyun ke mere Nabi ﷺ ka farman hai:

(الراشي والمرتشي كلاهما في النار)

Rishwat lene aur dene waale dono jahannam mein daakhil honge.

● میں وکیل بن کر کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلاؤں گا۔

● Main Wakeel Ban kar kisi be-gunah ko saza nahi dilaunga.



● میں وکیل بن کر باطل کو حق بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔

● Main Wakeel Ban kar baatil ko haq banaane ki koshish karunga.





میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا

● میں وکیل بن کر لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar logon ko Allaah se darne ki nasihat karunga.

● میں وکیل بن کر کسی سے انتقامی کارروائی نہیں کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar kisi se inteqaami karwaayi nahi karunga.

● میں وکیل بن کر حق داروں کے حق کو تسلیم کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar haq daaron. Ke haq ko tasleem karunga.

● میں وکیل بن کر دین کا علم بھی حاصل کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar deen ka ilm bhi haasil karunga.





● میں وکیل بن کر دینی معاملات میں علماء سے رہنمائی لوں گا۔

- Main Wakeel Ban kar deeni mamelaat mein ulma se rehnumaayi lungu.

● میں وکیل بن کر مد مقابل کے وکیل سے مل کر کیس لمبا نہیں کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar madd-e-muqaabil ke wakeel se milkar case lamba nahi karunga.

● میں وکیل بن کر موکل کو جھوٹ نہیں بولوں گا۔

- Main Wakeel Ban kar muwakkil ko jhoot nahi bolunga.



● میں وکیل بن کر غریبوں کے کیس مفت لڑوں گا۔

- Main Wakeel Ban kar ghareebon ke case muft (free) ladunga.



● میں وکیل بن کر میاں بیوی کے جھگڑوں کو حل کرنے میں مدد کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar miya biwi ke jhagdon ko hal karne mein madad karunga.

● میں وکیل بن کر طلاق کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar Talaaq ke Masaail ko hal karne mein madad karunga.

● میں وکیل بن کر عورتوں پر ظلم کرنے سے روکوں گا۔

- Main Wakeel Ban kar aurton par zulm karne se rokunga.

● میں وکیل بن کر شوہروں پر ظلم کرنے سے روکوں گا۔

- Main Wakeel Ban kar shoharon (husband) par zulm karne se rokunga.





● میں وکیل بن کر وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنے میں مدد کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar wiraasat ki taqseem shariyat ke mutaabiq karne mein madad karunga.

● میں وکیل بن کر پر اپرٹی کے جھگڑوں کو سلجھانے کی کوشش کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar property ke jhagdon ko suljhaane ki koshish karunga.

● میں وکیل بن کر کاروباری جھگڑوں کو علماء کی نگرانی میں حل کرنے کی کوشش کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar karobaari jhagdon ko ulma ki nigraani mein hal karne ki koshish karunga.



● میں وکیل بن کر امت مسلمہ کے نوجوانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف لڑوں گا۔

- Main wakeel Ban kar ummate muslimah ke naujawano par hone waale zulm ke khilaaf ladunga.



میں بڑا ہو کر کیل بنوں گا

● میں وکیل بن کر امت مسلمہ کے خلاف کی جانے والی سازشوں کے خلاف لڑوں گا۔

- Main wakeel Ban kar ummat-e-muslimah ke khilaaf ki jaane waali saazishon ke khilaaf ladunga.

● میں وکیل بن کر امت مسلمہ میں قانونی بیداری پیدا کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar ummat-e-muslimah mein Qanooni be-bedaari paida karunga.

● میں وکیل بن کر سارے مذاہب کے مظلوموں کی مدد کروں گا۔

- Main wakeel Ban kar saare mazaahib ke mazloomo ki madad karunga.

● میں وکیل بن کر مذاہب کے خلاف پیدا کی جانے والی نفرت کو مٹاؤں گا۔

- Main Wakeel Ban kar mazaahib ke khilaaf paida ki jaane waali nafrat ko mitaunga.





● میں وکیل بن کر امت مسلمہ میں وکالت کی اہمیت کے سلسلہ میں بیداری پیدا کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar ummat-e-muslimah mein wakaalat ki ehmiyat ke silsile mein bedaari paida karunga.

● میں وکیل بن کر مساجد کے خلاف کی جانے والی سازش کا مقابلہ کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar masaajid ke khilaaf ki jaane waali saazishon ka muqaabala karunga.

● میں وکیل بن کر فیس کو بڑھانے کے لئے کیس کو لمبا نہیں کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar fees ko badhane ke liye cases ko lambaa nahi karunga.



● میں وکیل بن کر معاشرہ سے برائی کو مٹانے کی کوشش کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar muashre se buraayi ko mitaane ki koshish karunga.



● میں وکیل بن کر سپریم کورٹ میں خدمت کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar supreme Court mein khidmat karunga.

● میں وکیل بن کر محبت کا اتحاد کا درس دینے والوں کے ساتھ کام کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar mohabbat ka itehaad ka dars dene waalon ke saath kaam karunga.

● میں وکیل بن کر معاشرہ میں اچھائی پھیلانے والوں کے ساتھ کام کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar muashre mein achchaayi phalaane waalon ke saath kaam karunga.

● میں وکیل بن کر کسی بھی کیس کو لینے سے پہلے اچھی طرح جائزہ لوں گا۔

- Main Wakeel Ban kar kisi bhi case ko lene se pehle achchi tar'ha case ka jaeza lunga.





میں بڑا ہو کر کیل بنوں گا

● میں وکیل بن کر عدالت میں مضبوط دلائل سے بات کروں گا اور عدل سے کام لوں گا۔

- Main Wakeel Ban kar saabeqa cases ko achche se Paghunga (read) karta rahunga taake main judges aur wakeelon ke daw pech se waaqif ho jaaun.

● میں وکیل بن کر عدالت میں حج کو گمراہ نہیں کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar adaalat mein judge ko gumrah nahi karunga.

● میں وکیل بن کر عدالت کے وقت کو ضائع نہیں کروں گا۔

- Main Wakeel Ban kar adaalat ke waqt ko zaaye nahi karunga.





● میں وکیل بن کر ہر دن تجربہ کو بڑھاتا رہوں گا۔

● Main Wakeel Ban kar har din tajrube (experience) ko badhaata rahunga.

● میں وکیل بن کر خود اعتمادی سے کیس لڑوں گا۔

● Main Wakeel Ban kar khud etemaadi se case ladunga.



Note

deentaleemforkids Paigham-e-Noor
deentaleemforkids Paigham-e-Noor

نورالدين عمرى كى زير طباعت كتابين

- (1) آو بچو قرآن سمجھين تفسير عم پارہ
- (2) آو بچو عقيدہ سمجھين
- (3) ميرے پيارے نبى
- (4) سنہرى باتين
- (5) سنو تم بدل سکتے ہو
- (6) زندگى کا سلیقہ
- (7) تفسير سورہ رحمن
- (8) درس حدیث
- (9) صدائے نور خطبات جمعہ
- (10) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (ماں كے پیٹ سے پیدائش تك)
- (11) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (پیدائش سے 7 سال تك)
- (12) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (7 سال سے 10 سال تك)
- (13) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (10 سال سے 14 سال تك)
- (14) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (15 سال سے 18 سال تك)
- (15) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (نكاح سے پہلے)

Note :

Support us in publishing of children's literature
Google pay Number 9391138391

نوٹ :
بچوں كے لٹریچر كى نشر و اشاعت ميں آپ كے تعاون كى ضرورت ہے۔

Introduction Of Shaikh Nooruddin Umeri

Shaikh Nooruddin Umeri Is A Renowned Islamic Scholar, Speaker And Researcher From Hyderabad, India. He Has Delivered Thousands Of Talks All Over India – In Organized Programs As Well As Friday Sermons In Masaajid. Apart From The Lengthy Speeches, His Short And Informative Videos On Youtube On A Variety Of Topics Have A Large Number Of Followers, Alhamdulillah.

He Is A Successful Child Psychologist And A Family Therapist. With Indepth Understanding Of Islam, He Specializes In Counseling Students, Parents And Spouses In The Light Of Shari'ah.

EDUCATION:

- Aalim Faazil – Jamia Darussalam, Oomerabad.
- Bachelor of Arts, Arabic– Madras University.
- Master of Arts, Arabic – English & Foreign Languages University (EFLU), Hyd.
- Diploma in Translation – English & Foreign Languages University (EFLU), Hyd.
- Master of Philosophy, Arabic–English & Foreign Languages University (EFLU), Hyd.
- Master of Arts, Urdu – Central University of Hyderabad, Hyd.

TEACHING EXPERIENCE:

- Arabic Lecturer At Narayana Junior College, Hyderabad For A Period Of 10 Yrs.
- Jamia Darul Furqaan, Sayeedabad, Hyderabad.
- Jamia Hafsa As-Salfiya, Golconda, Hyderabad.

RESEARCH WORK:

AskIslamPedia.com–An Online Islamic Encyclopedia, Head Office–Hyderabad.

CURRENT DESIGNATION:

Director - Ocean The ABM School, Hyderabad.

